

برامپٹن کے آؤٹ ڈور اسکیٹنگ رنکس میں مورخہ 27 جنوری سے ماسک پہننا لازمی ہو گا

برامپٹن، آن (27 جنوری 2021) – برامپٹن سٹی کونسل نے 27 جنوری کو ایک قرار داد کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے جس کے مطابق آج مورخہ 27 جنوری سے برامپٹن کے تمام آؤٹ ڈور اسکیٹنگ رنکس میں ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔

سٹی کے تمام آؤٹ ڈور رنکس میں دس سال سے زیادہ عمر کے شرکت کنندگان کے لیے نان میڈیکل ماسکس یا فیس کورنگز پہننا لازمی ہو گا۔

اس کے علاوہ آؤٹ ڈور اسکیٹنگ کے دیگر تمام مقامات پر بھی ہر عمر کے شرکت کنندگان نان میڈیکل ماسک یا فیس کورنگز پہننا جاری رکھیں گے۔ اس پابندی میں قطاروں میں انتظار کرنے، واش رومز میں، اسٹیجنگ کی جگہوں پر اور دیگر تمام مشترکہ مقامات بھی شامل ہیں۔

کمیونٹی کی صحت و تحفظ سٹی کی اہم ترجیحات میں شامل ہے، بالخصوص کووڈ-19 کے دوران۔ رنکس کے مقامات، حالت، بکنگ کی معلومات اور مزید بہت کچھ کے لیے، براہ کرم www.brampton.ca/outdoorskating ملاحظہ کریں۔

مختص کرانا

بروز اتوار، مورخہ 24 جنوری سے آؤٹ ڈور اسکیٹنگ کو مطلوبہ وقت سے صرف 24 گھنٹے پہلے ہی مختص کرایا جا سکے گا۔ مختص کرانے کے لیے، ملاحظہ کریں: www.brampton.ca/outdoorskating یا 905.791.2240 پر کال کریں۔

طلب کی زیادتی اور گنجائش کی کمی کی وجہ سے، رہائشیوں کو روزانہ صرف ایک آؤٹ ڈور اسکیٹنگ مختص کرانے کی اجازت ہو گی۔ یہ عمل پوری کمیونٹی کو آؤٹ ڈور اسکیٹنگ کے مساوی مواقع مہیا کرنے کے لیے ہے۔

منسوخی

براہ کرم جو بکنگ آپ کو مزید درکار نہ ہو، اس کو بروقت منسوخ کر دیں تاکہ دوسرے رہائشی اس کو اپنے لیے مختص کر سکیں۔ اپنی بکنگ کو منسوخ کرنے کے لیے 905.791.2240 پر کال کریں یا reconnects@brampton.ca پر ای میل بھیجیں۔